

## تبصرہ کتب :

### پاکستان و بھارت میں مخطوطات کی فہرستیں

مخطوطات کسی قوم کا فکری ورثہ ہوتی ہیں۔ ان کو جمع کرنے،  
ان کا خیال رکھنے اور ان سے استفادہ کرنے والی قوم نہ صرف  
فکری میدان میں اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتی ہے بلکہ عملی میدان میں  
بھی دیگر اقوام سے سربلند رہتی ہے۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان، جس میں بیشمار  
مخطوطات ہیں، کوئی جائز مقام نہیں رکھتا۔ یہاں عربی، فارسی،  
کر علاوہ علاقائی زبانوں میں لاتعدد مخطوطات اپنی جائز توجہ کرے  
منتظر ہیں۔ انھیں جمع کرنا، حفاظت کرنا یا اس سے استفادہ کرنا تو  
درکنار ابھی تک ان کو جانتا یعنی ان کی فہرستیں بھی مکمل طور پر  
نہیں بنائی جا سکیں۔ اس کام میں کئی رکاوٹیں ہیں جنھیں  
مخطوطات رکھنے والی اور ان کی فہرستیں تیار کرنے والی مل کر ہی  
دور کر سکتیں ہیں۔ مگر سب سے پہلے یہ التماں مخطوطات رکھنے  
والوں سے کرنا ضروری ہے کہ انھیں کس طرح ضائع ہونے سے بچایا  
جائے کیونکہ جس رفتار سے مخطوطات یہاں ضائع ہو رہے ہیں یہ  
ایک خطرے کا الارم ہے، کہیں ایسا نہ ہو، ایک وقت آئے کہ ہم اس  
فکری سرمایہ سے بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔

ان مخطوطات کی طرف محدود چند احباب توجہ دے رہے ہیں،  
اور میں سمجھتا ہوں کہ انھی کے دم سے کچھ جگہوں پر  
مخطوطات محفوظ ہیں۔

اس عدم توجہی کے باوصف کچھ حضرات نے اس عظیم ذخیرے میں سے کچھ حصے کی فہارس تیار کی ہیں ، جن میں دیگر ناقانص کے علاوہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یکسانیت کا فقدان ہے - اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فہارس کے تیار کرنے والے مختلف سطح کے لوگ رہے ہیں اور ان کی تیاری میں اغراض بھی مختلف رہی ہیں - بہرحال ان میں سے کچھ فنی اعتبار سے بہت اچھی فہرستیں ہیں جبکہ باقی فہارس بھی ضرورت کے اعتبار سے گزارے کر لائق ہیں -

مخطوطات کی فہرست کا ایک مقصد ہوتا ہے - جب تک یہ مقصد پورا نہ ہو وہ فہرست چندان مفید شمار نہیں ہوتی - اس لئے یہ از بس ضروری ہے کہ مخطوطات کی فہارس فنی اعتبار سے بہت عمدہ تیار کی جائیں ، ان میں ہر نسخے سے متعلق ضروری معلومات مکمل طور پر من و عن مہیا کی جائیں - یہ ایک بنیادی شرط ہے جو مخطوطات کی فہرست سازی کے وقت ہر فہرست نگار کے پیش نظر رہنی چاہئے -

اس کام کو منظم طریقے سے آگئے بڑھانے کے لئے سابقہ فہارس کا پیش نظر رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی خوبیوں کو برقرار رکھا جا سکے اور ناقانص سے اعراض کیا جا سکے - چنانچہ فہارس مخطوطات جو تھوڑی بہت اس وقت تک تیار ہوئی ہیں ، ان کی کتابیات کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ، جو بحمد اللہ اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے -

یہ بات خوش کن ہے کہ اس کام کا ڈول جناب عارف نوشانی صاحب نے ڈال دیا ہے ، جو بنیادی طور پر فارسی مخطوطات اور ان کی فہارس کے رسیا ہیں انہوں نے ایک کتابیات تیار کی ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے -

اس کتابیات کا پہلا حصہ پاکستان میں مخطوطات کی فہرستوں سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ بھارت میں ایسی فہارس اپنے اندر سمعونی ہوتی ہے ۔

پہلے حصہ میں پاکستان بشمول سابقہ مشرقی پاکستان کی اردو، عربی، فارسی، انگریزی، بنگالی، پنجابی، سندھی اور دیگر علاقائی زبانوں کے مخطوطات کی فہرستوں سے متعلق وضاحتی کتابیات ہے، جس کا دائرة اطلاعات یہ ہے :

پاکستانی مخطوطات کے بارے میں پاکستان میں طبع ہونے والی فہارس ۔

بیرون ملک مخطوطات کے بارے میں پاکستان سے شائع ہونے والی فہرستیں ۔

قیام پاکستان سے قبل کے کتب خانوں کی وہ فہرستیں جو پاکستان والی خطے میں طبع ہوتیں ۔

پاکستانی مخطوطات کے بارے میں بیرون ملک اس طرح کی جو فہرستیں شائع ہوتیں ۔

اس کتابیات میں ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جن میں ضمنی طور پر مخطوطات کا ذکر ہوا ہے ۔

اسی طرح بھارت کے مخطوطات کی فہرستوں میں مندرجہ ذیل نوعیت کی فہارس شامل ہیں، مگر خیال رہے کہ یہ فہرستیں مذکورہ بالا زبانوں کے مخطوطات سے متعلق ہی ہیں، ان میں بھارت کی دیگر زبانوں کے مخطوطات کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس حصہ میں ایسی فہرستیں ہیں جو : ۔

موجودہ هندوستان میں چھپیں ۔

موجودہ هندوستان میں موجود مخطوطات سے متعلق، هندوستان سے باہر چھپیں ۔

- هندوستان میں موجود مخطوطات سے متعلق غیر مطبوعہ فہرستیں جن کے مسودات هندوستان میں یا غیر ملکی کتب خانوں میں پڑے ہیں -

- مقالات کی صورت میں چھپنے والی اس علاقے کے مخطوطات کی فہارس، مگر مقالات کی بہت کم تعداد شامل کی گئی ہے -

جناب عارف نوشاہی نے اس کتابیات میں مطبوعہ ، وغیر مطبوعہ فہارس کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے - پہلے حصہ میں ۱۲۳ اندرجات ہیں جبکہ دوسرے حصے میں ۱۶۸ - ہر اندرجہ میں فہرست کا عنوان، طباعت کی صورت میں متعلقہ معلومات ، غیر مطبوعہ ہونے کی صورت میں کہاں موجود ہے ، پھر اس فہرست کے اندر بڑے بڑے کن مضامین میں مخطوطات کی تفصیل دی گئی ہے ، اور اندرجہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ معلومات کہاں سے حاصل کی گئی ہیں -

اس کتابیات کو ایک اچھے اور عمدہ اشاریہ سے مفید تر بنایا گیا ہے جس میں فہرستوں کے عنوانات ، کتب خانوں کے نام ، جن زبانوں میں مخطوطات کی فہرستیں مذکور ہیں ، الگ الگ زبانوں کے تحت، حروف ابجد کے مطابق درج کئے ہیں - دوسرے حصے یعنی بھارت سے متعلق مخطوطات میں کتب خانوں کا اشاریہ مقامات کے اعتبار سے دیا گیا ہے - جبکہ حصہ اول میں کتب خانوں کی مقامات کے لحاظ سے یہ ترتیب نہیں ہے -

اس کے علاوہ اس اشاریہ میں پاکستانی وغیر پاکستانی مؤلفین کی تفریق بھی ظاہر کی گئی ہے - مزید برائے مطبوعہ وغیر مطبوعہ کو اشاریہ میں الگ الگ دکھایا گیا ہے -

مؤلف نے یہ کتابیات بناتر وقت پاکستان و بھارت کے مختلف شہروں میں سفر کی تکالیف انہا کر بڑے بڑے کتب خانوں میں حاضری بھی دی ہے۔ نوشahi صاحب نے ہمت بہر کافی محنت و جانبشانی سے یہ کام سرانجام دیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ مگر اس کے باوصف ابھی اس میدان میں کافی کام باقی ہے، مخطوطات کا ذکر جو مختلف رسائل میں انفرادی طور پر آیا ہے، اس کا احاطہ تو یہ حد مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی فہارس جو مقامی طور پر مختلف کتب خانوں میں کارڈوں کی صورت میں موجود ہیں، ان کو بھی کسی طرح قابو میں لانے کی ضرورت ہے۔

اس کتابیات کا پہلا حصہ جو پاکستان سے متعلق ہے مقتدرہ قومی زبان نے اسلام آباد سے اکتوبر ۱۹۸۸ء میں اور بھارت سے متعلق حصہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی نے لاہور سے اسی سال اگست میں شائع کیا ہے۔

احمد خان

